

چین اور پاکستان کی دوستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آزمائش کی ہر گھڑی پر پورا اتری ہے۔ دونوں ممالک کی بے لوث اور مخلصانہ دوستی کو ہمالیہ سے بلند ، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی قرار دیا جاتا ہے ۔ گزشتہ 107 زائد دہائیوں کے دوران سیاسی سفارتی اقتصادی ، ثقافتی ، دفاعی غرضیکہ تمام شعبہ جات میں چین پاک تعلقات کے فروغ سے روایتی مضبوط دوستی کو مزید عروج حاصل ہوا ہے ۔ دونوں ممالک نہ صرف عالمی اور علاقائی پلیٹ فارمز پر ایک دوسرے کے مضبوط حامی ہیں بلکہ ایک دوسرے کی مضبوط اقتصادی سماجی ترقی کے خواہاں بھی ہیں۔ دونوں ممالک نے برادرانہ تعلقات میں ہمیشہ مشترکہ مشاورت کے اصول کا احترام کیا ہے ، مشترکہ تعمیر کے اصول پر عمل پیرا رہتے ہوئے مشترکہ مفاد کے اصول کو ترجیح دی گئی ہے۔

Date _____ —: Translation: —

The Pak-China friendship is said to have stood out in difficult times. The sincere friendship of both nations is termed as higher than the Himalayas, deeper than the oceans and sweeter than honey. In more than seventy decades, the friendship between China and Pakistan has strengthened ^{further} in all domains, including political, diplomatic, economic, cultural and defense. ~~Moreover,~~ Both countries are not only allied on regional and international platforms but also wish for each other's socio-economic development. ~~In addition to that,~~ the brotherly relations of both countries stand on the principle of mutual consultation; while keeping the pact of mutual development, mutual interests are upheld.

don't change the urdu context
over all it is satisfactory basic grammar and sentence
structure is satisfactory